

Education - 10th Class Education Urdu Medium Chapter 4 Preparation

Q1. کس عمل کے ذریعے بچے کو مدد سے کے ماحول سے مطابقت حاصل کرنے کے قابل بنایا جاتا ہے۔

Ans 1: جب طالب علم پہلے بہل سکول آتا ہے تو اسے مطابقت میں مشکل پیش آسکتی ہے۔ جس بچے کو یہ مسئلہ پیش آئے رہنمائی کے عمل کے ذریعے اسے اس مسئلہ پر قابو پانے کے لیے تیار کیا جاسکتا ہے۔

Q2. طلبہ کے مشکلات و مسائل کتنی قسم کے ہوسکتے ہیں۔

Ans 1: تعلیمی و تدریسی مسائل 2- معاشرتی مسائل 3- معاشی مسائل 4- پیشہ ورانہ مسائل 5- ذاتی و نفسیاتی مسائل 1-

Q3. انتظامیہ کا رویہ بچوں کی پڑھائی کو کس طرح متاثر کرتا ہے۔ مختصر بیان۔

Ans 1: مدرسہ میں داخل ہونے والے بچوں میں بعض بچے بڑے حساس ہوتے ہیں۔ وہ ہر قسم کے حالات کو برداشت نہیں کرسکتے۔ جب انتظامیہ ان بچوں سے عام بچوں جیسا سلوک کرتی ہے تو یہ بچے اپنی حساسیت کی وجہ سے مایوس ہوجاتے ہیں اور بعض اوقات اپنی پڑھائی ضائع کر بیٹھتے ہیں۔

Q4. تعلیم کے قدیم اور جدید مفہوم کی وجہ سے رہنمائی کے تصور میں کیا تبدیلی واقع ہوئی ہے۔

Ans 1: تعلیم کے قدیم اور جدید مفہوم میں جو فرق آیا ہے اس کے مطابق رہنمائی کے تصور میں بھی وسعت پیدا ہوگئی ہے۔

Q5. مشیر سے کیا مراد ہے۔

Ans 1: مشاورت کے عمل میں جو فرد مدد کرتا ہے اسے مشیر کہا جاتا ہے۔ مشیر طلبہ یا دیگر افراد کو مسائل حل کرنے میں ان کی مدد کرتا ہے۔

Q6. معلم کی دو خصوصیات لکھیے۔

Ans 1: معلم ایک ہمدرد اور شفیق رہنما ہوتا ہے 2- اپنے مضمون پر مکمل عبور رکھتا ہے۔ 3- مشکلات میں طالب علم کی بھرپور مدد کرتا ہے 1-

Q7. تعلیم کے جدید مفہوم کی روشنی میں معلم کے فرائض میں کیا تبدیلی واقع ہوئی ہے۔

Ans 1: تعلیم کے جدید مفہوم کے بناء پر اب یہ ضرورت محسوس کی جانے لگی ہے کہ معلم رہنمائی کا فریضہ بھی سر انجام دے۔

Q8. رہنمائی کا بنیادی مقصد کیا ہے۔

Ans 1: رہنمائی کا سب سے اہم مقصد اور پہلا مقصد یہ ہے کہ فرد کی مکمل اور متوازن نشوونما کرتا ہے تاکہ وہ ذہنی، جسمانی، جذباتی، اخلاقی، معاشرتی اور روحانی لحاظ سے ایک مکمل اور کمال انسان بن سکے۔ کامل انسان ہی اپنے لیے معاشرے کے لیے اور دنیا کے لیے مفید ہوسکتا ہے۔

Q9. معلم كے دو اہم فرائض تحریر کریں.

Ans 1: 1- استاد طلبا کی مناسب رہنمائی کرے۔ 2- استاد طالب علم کی شخصیت کی ہمہ پہلو اور ہمہ گیر نشوونما کرے۔ 3- استاد طلبہ کو اس قابل بنائے کہ طلبہ غور و فکر کریں اور اپنے مسائل حل کرسکیں

Q10. مشار سے کیا مراد ہے.

Ans 1: مشاورت کے عمل کے ذریعہ طلبہ اور دیگر افراد کے مسائل کو حل کرنے میں ان کی مدد کی جاتی ہے۔ لہذا جسے مدد فراہم کی جاتی ہے اسے مشار کہتے ہیں